



# SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN (SECP)

## PRESS RELEASE

For immediate release

April 14, 2026

### **Alibaba Enters Pakistan's Fintech Space as SECP Grants BNPL License**

**ISLAMABAD, April 14:** The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), has granted a license to KOKO TECH PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED (KTPL) to operate a Buy Now Pay Later (BNPL) business in Pakistan. KTPL is ultimately owned by Alibaba.com Holdings. The entry of Alibaba-backed KTPL marks a significant milestone for Pakistan's digital financial ecosystem.

One of world's leading e-commerce and technology companies, Alibaba's move into Pakistan reflects growing international confidence in the country's large consumer base, expanding digital economy, and untapped financial services market.

With its advanced AI-driven credit assessment systems and globally tested digital infrastructure, KTPL is expected to introduce innovative, data-driven lending solutions in the BNPL space. This will enhance access to consumer financing, particularly for young users, freelancers, and small businesses that remain underserved by traditional banking channels.

The development also represents a direct inflow of foreign investment into Pakistan's financial sector. Backed by Alibaba's global expertise and capital strength, KTPL is well-positioned to support SMEs, boost e-commerce activity, and accelerate the shift towards a more inclusive, technology-led financial system.

The SECP Chairman, Dr Kabir Ahmed Sidhu, said that the entry of Alibaba Group will boost competition and innovation.

Dr Sidhu noted that Pakistan is an attractive destination for international investment, supported by its large population, growing digital adoption, and an improving regulatory framework.



## SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN (SECP)

### PRESS RELEASE

For immediate release

April 14, 2026

## علی بابا کا پاکستان کے فن ٹیک شعبے میں داخلہ، ایس ای سی پی نے ذیلی کمپنی کو لائسنس جاری کر دیا

اسلام آباد، 14 اپریل: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کوکو ٹیک پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کو پاکستان میں نان بینکنگ فنانس کمپنی کا لائسنس جاری کر دیا ہے۔ کوکو ٹیک پاکستان، بین الاقوامی شہرت یافتہ کمپنی علی بابا کی ذیلی کمپنی ہے، اور پاکستانی صارفین کو قسطوں پر اشیاء کی خریداری کے لیے ڈیجیٹل مالیاتی خدمات فراہم کرے گی۔ علی بابا دنیا کی صف اول کی ای کامرس اور ٹیکنالوجی کمپنیوں میں شامل ہے۔ اس کمپنی کی پاکستان میں سرمایہ کاری ملک کے ڈیجیٹل مالیاتی نظام کے فروغ کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔

علی بابا کی سرمایہ کاری پاکستان کی بڑی صارف مارکیٹ، تیزی سے بڑھتی ڈیجیٹل معیشت اور مالیاتی خدمات کے شعبے میں موجود مواقع پر بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ کوکو ٹیک پاکستان، علی بابا کے تجربے، جدید مصنوعی ذہانت پر مبنی کریڈٹ اسیسمنٹ نظام اور عالمی سطح پر آزمودہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے ذریعے صارفین کو تیز رفتار اور قابل اعتماد مالیاتی خدمات فراہم کرے گی۔ اس سے خاص طور پر نوجوانوں، فری لانسرز اور چھوٹے کاروباروں کے لیے مالی سہولیات تک رسائی بہتر ہوگی، جو روایتی بینکاری نظام سے مکمل طور پر مستفید نہیں ہو پاتے۔

علی بابا کی بین الاقوامی شہرت، تجربے اور مالی وسائل کی بدولت کوکو ٹیک پاکستان چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو معاونت فراہم کرے گی اور ملک میں جدید ای کامرس کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔

چیئر مین ایس ای سی پی، ڈاکٹر کبیر احمد سدھو کا کہنا ہے کہ علی بابا گروپ جیسے بڑے ای کامرس ادارے کی شمولیت سے پاکستانی مارکیٹ میں کمپنیشن اور جدت کو فروغ ملے گا۔ ڈاکٹر سدھو نے کہا کہ پاکستان اپنی بڑی آبادی، بڑھتی ہوئی ڈیجیٹلائزیشن اور بہتر ریگولیٹری فریم ورک کی بدولت بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش منزل ہے۔